

ڈکیتی سے
بچاؤ

نظر رکھیں نگہبانی کریں
محفوظ رہیں



بیوسٹن کو

محفوظ

رکھیے



بنگامی 1-1-9 پولیس
غیر بنگامی 713-884-3131

عمومی معلومات کے لیے، اپنے مقامی پولیس اسٹیشن
سے رابطہ کریں (نمبر ذیل میں فراہم کیا گیا ہے)

یا
پبلک/افیئرز سے اس نمبر پر رابطہ کریں
713-308-3200

مزید معلومات کے لئے، ملاحظہ کریں
www.houstonpolice.org

281-230-6800	ایرپورٹ - بش
713-845-6800	ایرپورٹ - ہابی
713-247-4400	سنٹرل
281-218-3800	کلیئر لیک
713-928-4600	ایسٹ سائڈ
281-913-4500	کنگ ووڈ
832-394-1200	مڈویسٹ
281-405-5300	شمال
713-635-0200	نارتھ ایسٹ
713-744-0900	نارتھ ویسٹ
832-394-0200	ساؤتھ سینٹرل
832-394-4700	ساؤتھ گیسٹر
713-731-5000	ساؤتھ ایسٹ
713-314-3900	ساؤتھ ویسٹ
832-394-0000	اسپیشل اوپس
281-584-4700	ویسٹ سائڈ

کیا آپ کو معلوم ہے؟

بہت ساری ڈکیتیاں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ تنہا
ہوتے ہیں اور یہ ایک یا زائد ڈاکوؤں کے ذریعہ انجام دی
جاتی ہیں۔

ان میں سے بہت ساری ڈکیتیاں آپ کی کار کی آمد
ورفت کے راستے پر، خاص طور پر شاپنگ سنٹرز اور
اپارٹمنٹ کے پارکنگ لائنس میں ہوتی ہیں۔

سیلولر فون یا بیڈ سیٹ کا استعمال، چاہے گاڑی چلاتے
ہوئے یا بات کرتے ہوئے، توجہ منتشر کرنے والی چیز ہے
جو لوٹ لیے جانے کے آپ کے امکان کو بڑھا دیتی ہے۔

ڈکیتی تشدد کا جرم ہے جو معاشرے کے تحفظ اور
معیار زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔

ڈکیتی موقع دیکھ کر کیا جانے والا جرم ہے جسے
بیداری اور بچاؤ کے ذریعے کم کیا جاسکتا ہے۔

ڈاکو سلسلہ وار مجرم ہوتے ہیں اور اس وقت تک شکار
کو لوٹتے رہتے ہیں جب تک گرفتار نہ ہو جائیں۔

ڈکیتی کو کم کرنے کی ایک انتہائی اہم حکمت عملی
مجرم کو گرفتار کرنا ہے۔

ڈکیتی کی اطلاع نہ دینا، اگر آپ شکار ہوئے ہیں تو
مجرموں کا مواخذہ نہ کرنا، ڈاکوؤں کے بارے میں
پولیس یا کرائم اسٹاپرز کو معلومات فراہم نہ کرنا
مسلسل شکار بنائے جانے کو یقینی بناتا ہے۔

سنگین جرم میں ملوث کسی بھی فرد کو گرفتار کروانے اور
چارچنگ کی معلومات فراہم کرنے والوں کو کرائم اسٹاپرز
\$5,000 تک کا انعام دیتا ہے۔

کرائم اسٹاپرز سے - (8477)713-222 TIPS

یا

www.crime-stoppers.org سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

چوراہے پر کسی مشتبہ کردار کے پیش نظر چوکنا رہیں۔

- ڈاکوؤں کی نسل، عمر، قد، جنس، لباس، رنگ روپ، بال، آنکھ، رنگ وغیرہ۔
- ڈاکوؤں کے بارے میں خلاف معمول کوئی بھی چیز جیسے زخموں کے نشان یا ٹینو۔
- جرم میں ملوث افراد تعداد اور وہ جائے وقوع سے کس طرح گئے، سفر کی سمت، گاڑی کی ساخت اور رنگ۔ اگر آپ بحفاظت دیکھ سکتے ہوں تو لائسنس نمبر دیکھیں۔
- کوئی گفتگو جو مشکوک افراد نے ایک دوسرے سے کی ہو۔
- مشکوک فرد کا اسلحہ کیسا نظر آتا تھا تاکہ آپ بعد میں اسے بیان کر سکیں۔
- نیزیہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ مشکوک فرد کس چیز کو چھوتا ہے تاکہ فنکر پرنٹس لیے جا سکیں۔

ڈکیتی کے بعد

ڈکیتی کے جائے وقوع کے نزدیک محفوظ جگہ پر جائیں اور پولیس کو 1-1-9 پر فوراً کال کریں۔

تمام گواہوں کو پولیس افسران کے آنے تک رکے رہنے کے لیے کہیں۔ اگر کسی گواہ کو جانا ضروری ہو تو، ان کا نام، پتہ اور ٹیلیفون نمبر لے لیں۔

گواہوں کو مشتبہ فرد اور اس کے عمل کے بارے میں اپنی وضاحت لکھنی یا یاد رکھنی چاہئے۔ ڈکیتی پر بحث نہ کریں یا ڈاکوؤں کی وضع قطع کے بارے میں نوٹس کا موازنہ نہ کریں۔

موقع واردات کی حفاظت کریں۔ کسی بھی چیز کو چھونے کی کوشش نہ کریں۔

محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ چلیں

کوشش کریں کہ اکیلے نہ چلیں۔ اگر آپ کم از ایک دوسرے فرد کے ساتھ چلیں تو یہ کافی محفوظ ہے۔

چوکنا رہیں، اپنا سر اٹھا کر چلیں اور اپنے ذہن کو بھٹکنے نہ دیں۔ اکثر و بیشتر اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں، جس میں آپ کے پیچھے کا رخ بھی شامل ہے۔

رات میں چلتے وقت، مختصر سفر کے لیے بھی ٹیکسی کیب لینے پر غور کریں۔

اپنی جبلت پر بھروسہ کریں، غیر اطمینان بخش صورتحال سے گریز کریں۔ معذرت کرنے کے بجائے محفوظ ہونا بہتر ہے۔

آپ کے آس پاس گاڑی چلانے یا محض چکر لگانے والے مردوں/خواتین کے گروپوں پر گہری نگاہ رکھیں۔

اندھیرے، کبھی کبھار طے کردہ راستوں جیسے، ٹریلز، عمودی راستوں یا پتھروں سے ہو کر شارٹ کٹس نہ لیں۔

نقدی کے بارے میں اسمارٹ بنیں

صرف اتنی نقد رقم لے کر چلیں جتنی آپ کو استعمال کرنے کی توقع ہے۔ اگر نقدی کی ضرورت ہو تو ATM یا ڈیبٹ کارڈز استعمال کریں۔

باہر کے ATM's سے بچیں، خاص طور پر رات میں اور جو دور دراز کے علاقوں میں اندر جا کر ہوں۔

بینکوں یا چیک بینکنگ والے کاروباروں میں چوکنا رہیں۔ نقدی لے کر چلنا آپ کو ایک ہدف کے بطور نشان زد کر دیتا ہے۔

جب بھی ممکن ہو اپنا ہتھوڑا دکھانے سے احتراز کریں۔ ضروری نقدی، ID، اور کریڈٹ کارڈز قابل رسائی جیب میں رکھیں۔

مہنگے یا مہنگے لگنے والے زیورات نہ پہنیں اور جتنا ممکن ہو کم سے کم نقد ساتھ لے جائیں۔ اگر ضروری نہ ہو تو قابل قدر چیزیں گھر پر ہی چھوڑ دیں۔

ڈکیتی کے دوران کیا کیا جائے

پرسکون رہیں۔ مزاحمت نہ کریں۔ بیرو بننے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی عمل نہ کرنا آپ کے تحفظ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔

ڈاکوؤں کی ہدایات پر عمل کریں، لیکن جو کچھ کہا جائے اس سے زیادہ نہ کریں۔

اگر آپ کو ہٹنا یا پہنچنا ہے تو ڈاکو کو بتائیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اور کیوں۔ ڈاکو کو یقین دلائیں کہ آپ تعاون کریں گے۔ ذہن میں ان چیزوں کا نوٹ بنائیں:

ڈکیتی آج ریاستہائے متحدہ میں انجام پانے والے سب سے سنگین اور امکانی طور پر خطرناک جرائم میں سے ایک ہے۔ ڈاکویرغمال بنانے کا عمل کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ خطرہ پیدا کرنے میں ہسی ان کا فائدہ ہے۔ ممکنہ فائدہ کو کم کر کے اور پکڑے جانے کے خطرے کو بڑھا کر، متاثرین ہدف بنائے جانے کے اپنے امکان کو کم کر سکتے ہیں۔

گھر پر بچاؤ

باہر کی جانب کے تمام دروازے ڈیڈ-بولٹ سے مقفل ہونے چاہئیں۔

جب آپ گھر پر ہوں تو اپنے دروازے اور کھڑکیاں مقفل کر دیں۔

باہری دروازہ کھولنے سے قبل، دروازے پر موجود شخص کی شناخت کرنے کے بعد ہی انہیں اندر آنے کی اجازت دیں۔

غیر متوقع ملاقاتی کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔ اس میں کمپنی کے ملازمین اور دیگر وکلاء شامل ہیں۔

190 ڈگری کے زاویہ نظر والے جھروکے نصب کریں تاکہ آپ اس کی تصدیق کر سکیں کہ آپ کے دروازے کے دوسری طرف کون ہے۔

اس بات کی تشہیر نہ کریں کہ آپ تنہا رہتے/رہتی ہیں۔ رات میں باہری روشنی کو آن رکھنا یقینی بنائیں۔

سسٹے ٹائمز یا فوٹو الیکٹرک سیلز شام اور طلوع صبح کے وقت خود بخود آن اور آف کر دیتے ہیں۔

اگر تشویش ہو تو، کسی بھی مشتبہ گاڑیوں کے لائسنس پلیٹ نمبر لکھ لیں اور پولیس کو اس کی اطلاع دیں۔

کارچلاتے وقت خود پر حملہ ہونے چوٹ پہنچائے جانے اور سامان چرائے جانے کے امکانات کو کم کریں

ہمیشہ اچھی طرح سے روشن حصے میں گاڑی کھڑی کریں تاکہ آپ دور سے ہی اپنی کار اور اس کے گرد و پیش کی جگہ کو دیکھ سکیں۔

اپنی گاڑی کے پاس پہنچنے کے وقت اپنی کار کی کنجیاں تیار رکھیں اور ایسے افراد کے مدنظر اپنی کار کے نیچے، اس پاس، اور اندر میں نگاہ ڈالیں جو وہاں چھپے ہو سکتے ہیں۔ اگر محفوظ ہو تو داخل ہوں اور فوری طور پر سبھی دروازے مقفل کر دیں۔

چوکنا رہیں۔ آٹو پائلٹ پر گاڑی نہ چلائیں۔ کسی ایسی کار کے لیے آئینے پر نگاہ رکھیں جو آپ کا پیچھا کر رہی ہو۔

اگر آپ کے خیال میں کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہو تو، گھر نہ جائیں۔ گاڑی چلا کر قریبی پولیس اسٹیشن، فائر اسٹیشن، کھلے گیس اسٹیشن، یا اچھی طرح سے روشن جگہ پر جائیں جہاں ایسے لوگ ہوں جو آپ کی مدد کر سکیں۔

ٹریفک میں رک جانے پر، اپنی اور آپ کے آگے والی کار کے بیچ کافی جگہ چھوڑیں تاکہ اگر ضروری ہو تو آپ کوشش کر کے فرار ہو سکیں۔